

# Thal Limited

Registered Office: 4th Floor, House of Habib 3-Jinnah C. H. Society, Block-7/8, Sharea Faisal, Karachi-75350

Tel: (92-21) 3431-2030 Fax: (92-21) 3439-0868 E-mail: tl@hoh.net Website: www.thallimited.com

TL/2023/4202

September 28, 2023

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road, Karachi-74000

## **NOTICE OF 57<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

In pursuance of clause 5.6.9(b) of PSX Regulations please find attached herewith a copy of the notice of Annual General Meeting of Thal Limited, to be held on October 23, 2023 at 09:30 A.M. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi prior to its publication in newspapers.

The appended notice will be published in newspapers on Monday, October 02, 2023.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the exchange accordingly.

Yours faithfully, For **Thal Limited** 

Sameer Amlani Company Secretary

Cc: Executive Director / HOD
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities and Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue
Blue Area, Islamabad

Pakistan

## Notice of the Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Fifty-seventh Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, October 23, 2023 at 9:30 am The Institute of Chartered Accountants of Pakistan ("IcAP") Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi as well as through electronic means/video-link facility for transact the following business:

#### Ordinary business

- To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, together with the Chairman's Review, Directors' and Auditor's Report thereon.
- To approve a final cash dividend of 130% (i.e. Rs. 6.50 per share) for the year 2022-23 as recommended by the Board of Directors. This is in addition to the interim dividend, of 30% i.e. Rs. 1.50 per share already paid. The total dividend for 2022-23 will thus amount to 160% i.e. Rs. 8.00 per share.
- To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2024.
  The Board Audit Committee and the Board of Directors have recommended M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants, as auditors for appointment in the annual general meeting in place of retiring auditors, M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants.

#### Special business

4. To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), the following resolutions as ordinary resolutions to enable and authorize the Company to circulate the annual audited financial statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its Notification S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, instead of circulating the same through CD/DVD/USB.

RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to circulate its annual audited financial statements, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, issued by SECP.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive, Chief Financial Officer or Company Secretary of the Company be and are hereby singly authorized to do all acts, deeds and things, take or cause to be taken all necessary actions to comply with all legal formalities and requirements and file necessary documents, as may be necessary or incidental for the purpose of implementing this resolution.

 To consider and, if deemed fit, to pass with or without modifications(s), addition(s) or deletion(s), the following special resolutions in terms of section 199 of the Companies Act, 2017:

RESOLVED THAT the approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 and the regulations made thereunder, to create a charge on assets of the Company, up to an amount not exceeding the PKR equivalent of USD 2,800,000 (United States Dollars Two Million Eight Hundred Thousand Only), or to provide such security as may be required by the banks/financial institutions not exceeding the adorementioned amount, for the purpose of securing the obligations of Thalford TN in favour of the Central Power Purchasing Agency (Guarantee) Limited, pursuant to its Power Purchase Agreement with TN. Such obligation shall be valid for a period of 10 (ten) years, or such period until the liabilities/obligations or the soonsors remain undischarged, whichever is later.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive and the Chief Financial Officer, acting jointly or severally are authorized to negotiate and finalize the terms of the required agreements, and to execute all necessary documents in relation to the creation, perfection and filing of the required agreements, security documents and other related filings and documents; and to handle and execute all matters and requirements incidental and/or ancillary thereto.

They may also make any amendments, restatements, addenda or supplementals to the documents including but not limited to the agreements, as may be required from time to time, to fully achieve the objectives of the aforesaid resolutions.

Statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 concerning special resolution is attached along with the notice circulated to the members of the Company.

Karachi Dated: September 11, 2023 By order of the Board Sameer Amlani Company Secretary

#### Notes

#### 1. Participation in the AGM proceeding via the video conference facility

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") has, wide its Circulars issued from time to time, directed the listed companies to hold the general meetings virtually in addition to the requirements of holding physical meetings. In order to facilitate the shareholders, the Company in addition to convening a physical meeting has also arranged attendance of shareholder virtually via video link facility.

The shareholders interested in attending the AGM virtually are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address tl@hoh.net for their appointment and proxy's verification. Video link and login credentials will be shared with ONLY those members, whose emails,

containing all the below mentioned particulars, is received at least 48 hours before the AGM.

Shareholder name	Folio/CDC No.	Mobile phone number	Registered email address

Shareholders may also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM in their email for registration.

#### 2. Closure of share transfer books

The share transfer books of the Company will be closed from October 17, 2023 to October 23, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the annual general meeting and payment of the final dividend. Transfer requests received by our share registrar, M/S. FAMCO Associates (Private) Ltd., 8-F, next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Sharah-e-Faisal Karachi. Tel:009-21-34380101-5, 0092-21-34384021-3 (Ext-103) Fax: 0092-21-3438010 at the close of business on October 16, 2023 will be treated in time for the purpose of determining above entitlement to the transferees for payment of final dividend and to attend the annual general meeting.

#### 3. For attending the meeting:

In case of individuals, the account holders or sub-account holders and/or the persons whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing original CNIC or original passport at the time of attending the meeting.

In the case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (if it has not been provided earlier) at the time of attending the meeting.

#### 4. Prox

A member entitled to attend and vote at this general meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote in his/her place at the meeting. A 'Proxy Form' appointing a proxy must be deposited at the registered office of the Company or at the above-mentioned address of Company's share registrar at least forty-eight hours before the time of the meeting along with the copy of CNIC of proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee along with his/her copy of CNIC shall be provided at least 48 hours before the time of meeting. The form of proxy in english and urdu is attached in annual report and should be witnessed by two persons whose name, addresses and CNIC numbers should be mentioned on the forms. The form of proxy is also available on the Company's website (www.thallimited.com).

#### 5. Updating of particulars

The shareholders are requested to promptly notify change in their address, if any, to the Company's share registrar. In case of corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify change in their particulars of their authorized representative, if applicable.

#### 6. Submission of copies of CNIC not provided earlier

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's share registrar, FAMCO Associates (Private) Limited. In case of non-availability of a valid copy of the Shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act 2017.

#### 7. Withholding tax on dividend

Currently, the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, are as under:

(a) For persons appearing in Active Tax Payer List (ATL): 15% (b) For persons not appearing in Active Tax Payer List (ATL): 30%

Shareholders who have filed their return are advised to make sure that their names are entered into latest Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR at the time of dividend payment, otherwise they shall be treated as persons not appearing in ATL and tax on their cash dividend will be deducted at the rate of 30% instead of 15%.

#### 8. Withholding tax on dividend in case of joint account holders

In order to enable the Company to follow the directives of the regulators to determine shareholding ratio of the joint account holder(s) (where shareholding has not been determined by the principal shareholder) for deduction of withholding tax on dividend of the Company, shareholders are requested to please furnish the shareholding ratio details of themselves as principal shareholder and their joint holders, to the Company's share registrar, enabling the Company to compute withholding tax of each shareholder accordingly. The required information must reach the Company's share registrar by October 16, 2023, otherwise each shareholder will be assumed to have equal proportion of shares and the tax will be deducted accordingly.

#### 9. Payment of cash dividend electronically (E-mandate)

In accordance with the provisions of section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory that dividend payable in cash shall only be paid through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Notice in this regard has already been published earlier in newspapers as per Regulations. All shareholders are once again requested to provide details of their bank mandate specifying: () title of account, (ii) account number, (iii) IBAN number (iv) bank name and (v) branch name, code & address; to Company's share registrar. Shareholders who hold shares with Participants/Central Depository Company of Pakistan (CDC) are advised to provide the mandate to the concerned Broker/CDC.

#### 10. Distribution of annual report through email (optional)

Pursuant to the provision of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their annual financial statements, along with auditor's report, directors' review report etc. ("Annual Report") and the notice of annual general meeting ("Notice"), to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's annual report and notice of annual general meeting by email are requested to provide the completed electronic communication consent form (available on the Company's website) to the Company's share registrar

The audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023 have been made available on the Company's website (www.thallimited.com) in addition to annual and quarterly financial statements for the prior years.

#### 11. Conversion of physical shares into book-entry form

Section 72 of the Companies Act, 2017, requires all listed companies to replace the shares held in physical form with the shares to be issued in book-entry form within 4 years from the date of the promulgation of the Companies Act 2017. Pursuant to the SECP letter no. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in book-entry form in order to comply with the provisions of the Companies Act, 2017. Shareholders may contact the Company's share registrar to understand the process and benefits of conversion of shares held in physical form into book-entry form.

#### 12. Procedure for e-voting and postal ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 2192(I)/2022 dated December 5, 2022, members will be allowed to exercise their right to vote for the special business in the AGM, in accordance with the conditions mentioned in the aforesaid regulations. The Company shall provide its members with the following options for voting

#### 13. E-voting procedure

- 1. Members who intend to exercise their right of vote through e-voting shall send email with subject "E-voting Request" at tl@hoh.net and provide their valid CNIC Numbers, Cell numbers and email address on or before October 13, 2023. Details of the e-voting facility will be shared through an email with the members
- 2. The web address, login details, and password, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of M/S, FAMCO Associates (Private) Ltd
- Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login
- E-voting lines will start from October 16, 2023, 09:00 a.m. and shall close on October 20, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during this period. Once the vote on a resolution is cast by a member, he/ she shall not be allowed to change it subsequently.

#### 14. Postal ballot

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address, Thal Limited, 4th Floor, House of Habib. 3 Jinnah Cooperative Housing Society, Block 7/8, Sharah-e-Faisal, Karachi or email with subject "Voting through Postal Ballot" at tl@hoh.net no later than October 20, 2023, during working hours. The signature on the ballot paper, shall match with the signature on CNIC. The postal ballot paper will be placed on the Company's website www.thallimited.com at least seven (7) days before the

#### Statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act. 2017 relating to the special business

This statement sets out the material facts concerning the special business, given in agenda no. 4 & 5 of the notice, intended to be transacted at the AGM.

#### Agenda no. 4 of the notice

The SECP has allowed listed companies, through its SRO No. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, to circulate the annual audited financial statements, to the members of the Company through QR-enabled code and weblink (instead of CD/DVD/USB), subject to approval of shareholders in the annual general meeting. Where an email address has been provided by the shareholder, the Company shall circulate annual audited financial statements to the member through email. A shareholder may request the Company to provide a hard copy of the annual audited financial statements, and the same shall be provided at the shareholder's registered address free of cost, upon receipt of a duly completed request form, as available on the Company's website, www.thallimited.com

#### Agenda no. 5 of the notice

#### Background

Thal Limited through its wholly owned subsidiary Thal Power (Private) Limited, has invested in setting up ThalNova Thar (Private) Limited ("TN"), a 330MW power plant in Thar. Thal Power (Private) Limited, holds 26.0% of the total shareholding of TN, the remaining shareholding is held by Hub Power Holdings Limited 38.3%, Nova Powergen Limited 24.70%, Descon 1%, and CMEC 10%

Under the terms of the Power Purchase Agreement ("PPA") dated July 21, 2017 entered into between TN and the Central Power Purchasing Agency (Guarantee) Limited ("CPPA-G"), as amended from time to time, TN has provided a letter of credit in favor of CPPA-G to secure its certain obligations under the Power Purchase Agreement letter of credit ("PPA LC").

As TN does not have sufficient security to fully secure its obligations under such letter of credit the Company, along with the other sponsors of TN, is required to

provide security. This will be achieved by creating a charge on the Company's fixed assets, or to provide such security as may be required by the banks / financial institutions up to an amount not exceeding the PKR equivalent of USD 2,800,000 (United States Dollars Two Million Eight Hundred Thousand Only) as may be required by the relevant banks/financial institutions.

Nature of Information required to be disclosed pursuant to the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations 2017 (the "Regulations")

a) Disclosures required under Regulation 3(a) for all types of investments:

		all types of investments:
Information required	Information	on provided
Name of the "associated company"	TN is an associated company of the Company. The Company, through its	
Basis of relationship	Company. The Company, through its wholly owned subsidiary, Thal Power (Private) Limited, presently holds 26.0% shares in TN.	
	Mr. Muham is the CEO directorship	mad Tayyab Ahmed Tareen of the Company and holds in TN.
Earnings per share for the	Years	Earnings Per Share
last three years	2023	Rs. 2.71
	2022 2021	Rs. (0.013) Rs. (0.07)
Break-up value per share, based on latest audited financial statements		per share as of June 30, 2023
Financial position, including main	ThalNova I	Power Thar (Private) Limited
items of statement of financial	As at June 30, 2023 Rs in '000	
position and profit and loss account on the basis of its latest financial	Total asset	
statements	Equity	27,878,829
	Long-term	loan 72,911,740
	Current liab	bilities 38,661,222 22,522,972
	Profit for th	
In case of investment in relation to a	Not applic	
project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely:  i) Description of the project and its history since conceptualization; ii) Starting date and expected date of completion of work; iii) Time by which such project shall become commercially operational; iv) Expected time by which the project shall start paying return on investment; and v) Funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts;	Provide s	security up to an amount not
made	for PPA La aforesaid	PKR equivalent of US\$ 2.8 million C or such other security up to the limit as may be required by the ders of TN from time to time
Purpose and benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment	and open ("Project") Purchase entered in Power F Limited ("to to time, TI credit in fa obligations As TN do fully secur of credit, t Sponsors replaceme introductic to general	een incorporated to construct, own, tate 330 MW coal-based facility. Under the terms of the Power Agreement dated July 21, 2017 to between TN and the Central rurchasing Agency (Guarantee) CPPA-G), as amended from time N is required to provide a letter of avor of CPPA-G to secure certains under the PPA ("PPA LC"), es not have adequate security to elts obligations under such letter he Company, along with the other of 17N, is required to provide the security (as discussed in the n). Investment in TN is anticipated e a return of 20% in IPR terms as EPRA awarded upfront tariff.

	Information provided	None of the directors of the Company has	e any direct or indirect interest in the speci	
Sources of funds to be utilized for	Not applicable	business, except in their capacity as memb		
investment and where the investment is intended to be made		Statement under Regulation 4(2) of the Companies or Associated Undertakings	ne Companies (Investment in Associate ) Regulations, 2017	
using borrowed funds: i) justification for investment		Limited ("SECMC") that was approved in	relation to Sindh Engro Coal Mining Compar the Annual General Meeting ("AGM") held o	
through borrowings; ii) detail of collateral, guarantees		October 2nd, 2018. Sindh Engro Coal Mining Company Limited		
provided and assets pledged for obtaining such funds; and			ober 2nd 2018 the members of the Compar o Coal Mining Company Limited ("SECMC"	
iii) cost benefit analysis			ions on July 10, 2019 which marks a histor Phase I of the Thar mining and power generation	
Salient features of the	The Shareholders Agreement ("SHA")	projects comprise Pakistan's first indigenous open pit coal mine which supr tons of lignite coal per annum to a 2x330 MW power generation plant se		
agreement(s), if any, with associated company or associated	entered into for TN details the investment in equity of TN by each of	Powergen Thar Limited ("EPTL"). For Pha	se I of SECMC, the Board of Directors of Th istani Rupee ("PKR") equivalent of USD 36	
undertaking with regards to the proposed investment	the shareholders such that the shares of TN are distributed as follows: The	million, which includes equity investment	of USD 24.3 million, USD 5 million for co cing reserve (adjustable due to LIBOR/KIBC	
	Company through its wholly owned subsidiary Thal Power (Private)	movement). Phase I of SECMC mining pro	oject has been completed within time and wi	
	Limited, holds 26.0% of the total shareholding of TN, the remaining	of USD 17.7 million as equity in SECM0 shareholding in SECMC.	Phase I, while maintaining 11.9% ordina	
	shareholding is held by Hub Power Holdings Limited 38.3%, Nova	SECMC achieved project completion date	e for Phase I in May 2023 and subsequent	
	Powergen Limited 24.70%, Descon 1%, and CMEC 10%. As per the SHA,		billion in June 2023 (ordinary dividend of PK of PKR 2.3 billion). The Company received i	
	each Party shall jointly assist the Company to achieve successful	date of Phase I, the contractual commitme	ordinary shareholding. Post project completion ents of cost overrun support and debt servious	
	completion and operations of the Project.	reserve account have now been released.  SECMC entered into coal supply agreem	ents with Thar Energy Limited and ThalNov	
Direct or indirect interest of	The Company through Thal Power	Power Thar (Private) Limited for Phase II,	o supply 1.9 million tons per annum to each total capacity of the mine to 7.6 million tons p	
directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if	(Private) Limited currently owns 26.0% shares in TN.	annum. Phase II of SECMC achieved fina	ncial close on December 31, 2019. For Pha al Limited approved a total exposure of Ph	
any, in the associated company or associated undertaking or the	Mr. Muhammad Tayyab Ahmed	equivalent of USD 10.5 million, which inclu	des equity investment of USD 7.9 million, US illion for debt servicing reserve (adjustable d	
transaction under consideration	Tareen is the CEO of the Company and holds directorship in TN.	to LIBOR/KIBOR movement).	perations date on 30th September 2022. As	
		result of savings in project cost, the Compa	ny invested a total of USD 5.4 million as equal tandby letter of credit and contractual spons	
	Mr. Muhammad Salman Burney is the common director in both the Company's and TN's Board.		eserve support shall be released once SECN	
		SECMC is presently supplying coal to 13	20 MW Thar based power plants in Block	
In case any investment in associated company or associated	Thal Limited has not injected any equity in nor extended any loan to TN	in the country.	mong the cheapest source of base-load pow	
undertaking has already been made, the performance review of			as invested Rs. 2,840.15 million in SECM ing face value of Rs. 10 each, at a price of F	
such investment including complete information/justification for any		14.82 per share. ThalNova Power (Private) Limited		
impairment or write offs		Status update concerning the business i	n relation to ThalNova Power Thar (Privatinary General Meeting ("EOGM") dated Man	
Any other important details necessary for the members to	Not applicable	22, 2018.  Equity injection, guarantee and sponsor su		
understand the transaction  Disclosures required under Regulat	tion 3(c):	The shareholders in the EOGM held on Ma	arch 22, 2018, had approved equity injection and to arrange a standby letter of credit in a	
Information required	Information provided	amount not exceeding USD 41.1 million (or	PKR equivalent) securing the equity obligation of up to USD 12.4 million (or PKR equivaler	
•	Provide security, up to an amount not	and sponsor support to be provided by the	Company for the benefit of TN for an aggregate equivalent) as an investment in the form	
Category-wise amount of		equity or subordinated debt to cover for fun	ding shortfall/cost overrun that may arise in 7 debt service reserve support up to USD 12	
	exceeding PKR equivalent of US\$ 2.8			
	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by			
	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN	be required under the Sponsor Support A Company intends to make these sponsor	greement entered into with the lenders. Tr support investments by way of preferen	
Category-wise amount of investment	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in	be required under the Sponsor Support A Company intends to make these sponso shares and/or ordinary shares and/or throu that may be received from the lenders. If the	greement entered into with the lenders. To r support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approve ough preference shares then the key terms v	
investment  Average borrowing cost of the	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponso shares and/or ordinary shares and/or throu that may be received from the lenders. If thi include a USD return or equity of 1%, wh payment date and redeemable at the optio	greement entered into with the lenders. T r support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvough preference shares then the key terms vicin will be cumulative if not paid in full on a n of the Company.	
Average borrowing cost of the nvesting company, the Karachi Inter Sank Offered Rate (KIBOR) for the	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TNs lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponso shares and/or ordinary shares and/or throu that may be received from the lenders. If thi include a USD return or equity of 1%, wh payment date and redeemable at the optio	greement entered into with the lenders. To support investments by way of preferen of his subordinated debt depending on approva ough preference shares then the key terms witch will be cumulative if not paid in full on a no the Company. the Companies (Investment in Association of the Companies)	
Average borrowing cost of the rosesting company, the Karachi Inter Sank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for shariah compliant products and rate	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TNs lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsc shares and/or ordinary shares and/or throu, that may be received from the lenders. If thi include a USD return on equity of 11%, wh payment date and redeemable at the optic Information pursuant to Section 4(2) of	the Companies (Investment in Associate	
werage borrowing cost of the rivesting company, the Karachi Inter Jank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for hariah compliant products and rate freturn for unfunded facilities, as the	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TNs lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or through the street of the s	greement entered into with the lenders. T r support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvough preference shares then the key terms ich will be cumulative if not paid in full on an of the Company.  the Companies (Investment in Associate egulations 2017:  Information provided  As above	
werage borrowing cost of the nvesting company, the Karachi Inter lank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for hariah compliant products and rate freturn for unfunded facilities, as the ase may be, for the relevant period. late of interest, mark up, profit, fees	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TNs lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponso shares and/or ordinary shares and/or throu. that may be received from the lenders. If the include a USD return or equity of 1%, who payment date and redeemable at the optio Information pursuant to Section 4(2) of Companies or Associated Undertakings) F	greement entered into with the lenders. T r support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvo ough preference shares then the key terms ich will be cumulative if not paid in full on a n of the Companies (Investment in Associat egulations 2017:  Information provided	
average borrowing cost of the revesting company, the Karachi Intersank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the asse may be, for the relevant period. Take of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or through the street of the s	greement entered into with the lenders. T re support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvuough preference shares then the key terms vicin will be cumulative if not paid in full on a nof the Company. the Companies (Investment in Associate egulations 2017:  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in	
average borrowing cost of the investing company, the Karachi Intervank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for hariah compliant products and rate freturn for unfunded facilities, as the asse may be, for the relevant period. Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by exesting company	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or through the stress of the s	greement entered into with the lenders. T r support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvough preference shares then the key terms vicin will be cumulative if not paid in full on a nof the Companies (Investment in Associate egulations 2017:  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani Rupees)  The Company diluted its shareholding in T from 49.5% in 2018 to 26% in 2018.  The TN project was delayed beyond origin.	
Average borrowing cost of the nvesting company, the Karachi Inter Sank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of retrum for Shariah compliant products and rate of retrum for unfunded facilities, as the sase may be, for the relevant period. Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by nvesting company	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of disbursement.	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or throu that may be received from the lenders. If thi include a USD return on equity of 11%, wh payment date and redeemable at the optio Information pursuant to Section 4(2) of Companies or Associated Undertakings) R Information required  a) Total investment approved b) Amount of investment made to date  (c) reasons for deviations from the approved timeline of investment,	greement entered into with the lenders. T is support investments by way of preference in subordinated debt depending on approvuough preference shares then the key terms is thin will be cumulative if not paid in full on a nof the Companies (Investment in Associate egulations 2017:  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani Rupees)  The Company diluted its shareholding in T from 49.5% in 2018 to 26% in 2018.  The TN project was delayed beyond origin timeline due to challenges with arrangin USD financing for coal projects as	
Average borrowing cost of the revesting company, the Karachi Intersank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for shariah compliant products and rate of return for the relevant period.  **Take of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company  **Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment  **It the investment carries conversion**	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of disbursement.	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or through the stress of the s	greement entered into with the lenders. Tresupport investments by way of preferen is subordinated debt depending on approvough preference shares then the key terms vicin will be cumulative if not paid in full on a nof the Company.  the Companies (Investment in Associate egulations 2017:  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani Rupees)  The Company diluted its shareholding in T from 49.5% in 2018 to 26% in 2018.  The TN project was delayed beyond origin timeline due to challenges with arrangin USD financing for coal projects an subsequent delays related to COVID-15.	
Average borrowing cost of the nvesting company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the asse may be, for the relevant period. Place of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by nvesting company  Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment for the investment carries conversion eature i.e. it is conventible into securities, this fact along with terms	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of disbursement.  Not applicable	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or through the stress of the s	greement entered into with the lenders. T re support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvations and the subordinated debt depending on approvation with the subordinated debt depending on approvation with the companies (Investment in Associate egulations 2017:    Information provided	
Average borrowing cost of the ruesting company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the asse may be, for the relevant period. Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by nivesting company  Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment carries conversion to the composed investment carries conversion return it. et it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion ormula, circumstances in which the	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of disbursement.  Not applicable	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or through the stress of the s	greement entered into with the lenders. T re support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvious preference shares then the key terms vicih will be cumulative if not paid in full on a nof the Company.  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani Rupees)  The Company diluted its shareholding in T from 49.5% in 2018 to 26% in 2018.  The TN project was delayed beyond origin timeline due to challenges with arranging USD financing for coal projects an subsequent delays related to COVID-11. The project achieved financial close on 3 September 2020 and subsequent chieved commercial operations date if February 2023.	
Average borrowing cost of the nesting company, the Karachi Inter Sank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the sase may be, for the relevant period. Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by nvesting company  Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment of the investment carries conversion eature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion ormula, circumstances in which the conversion may take place and the me when the conversion may be	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of disbursement.  Not applicable	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or through the stress of the s	greement entered into with the lenders. Tre support investments by way of preferer is support investments by way of preferer gh subordinated debt depending on approvought of the company. The company. The Company. The Company. The Company.  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani Rupees)  The Company diluted its shareholding in T from 49.5% in 2018 to 26% in 2018.  The TN project was delayed beyond origin timeline due to challenges with arrangir USD financing for coal projects are subsequent delays related to COVID-11. The project achieved financial close on 3 September 2020 and subsequent commercial operations date February 2023.	
Average borrowing cost of the nvesting company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of retrum for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the sase may be, for the relevant period. Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by nvesting company  Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the me when the conversion may be exercisable	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of disbursement.  Not applicable	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or throuthat may be received from the lenders. If thin include a USD return on equity of 11%, will payment date and redeemable at the optic information pursuant to Section 4(2) of Companies or Associated Undertakings) Finomation required  a) Total investment approved b) Amount of investment made to date (c) reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time;  (d) material change in financial	greement entered into with the lenders. T re support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvious preference shares then the key terms vicih will be cumulative if not paid in full on a nof the Company.  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani Rupees)  The Company diluted its shareholding in T from 49.5% in 2018 to 26% in 2018.  The TN project was delayed beyond origin timeline due to challenges with arrangin USD financing for coal projects an subsequent delays related to COVID-11. The project achieved financial close on 3 September 2020 and subsequent delays related to COVID-11. The project achieved financial close on 3 September 2020 and subsequent delays related to COVID-12. Equity injections were made along with del disbursement and total equity obligation of the Company has now been met.  The associated company's financial close the Company has now been met.	
Average borrowing cost of the ruesting company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of retrum for Shariah compliant products and rate for eturn for unfunded facilities, as the base may be, for the relevant period.  Rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by muesting company  Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment of the investment carries conversion eature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable  Repayment schedule and terms and ponditions of loans or advances to be	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of disbursement.  Not applicable	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or through the stress of the s	greement entered into with the lenders. T re support investments by way of preferen gh subordinated debt depending on approvious preference shares then the key terms vicih will be cumulative if not paid in full on a nof the Company. The Company.  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani Rupees)  The Company diluted its shareholding in T from 49.5% in 2018 to 26% in 2018.  The TN project was delayed beyond origin timeline due to challenges with arrangin USD financing for coal projects an subsequent delays related to COVID-11. The project achieved financial close on 3 September 2020 and subsequent delays related to COVID-11. The project achieved financial close on 3 September 2020 and subsequent delays related to COVID-12. Exputy injections were made along with del disbursement and total equity obligation of the Company has now been met.  The associated company's financial clos was delayed beyond original timelines du to challenges with arranging USD financial clos was delayed beyond original timelines du to challenges with arranging USD financial clos was delayed beyond original timelines du to challenges with arranging USD financial clos was delayed beyond original timelines du to challenges with arranging USD financial clos was delayed beyond original timelines du to challenges with arranging USD financial.	
Average borrowing cost of the rowsting company, the Karachi Inter Sank Offered Rate (KIBOR) for the elevant period, rate of return for shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period. Place of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by nivesting company.  Particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment carries conversion eature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and could, circuit in conversion may take place and the interest when the conversion may be exercisable.	million, or such other security up to the aforesaid limit as may be required by TN's lenders from time to time, in order to secure the obligations of TN under the letter of credit issued in favour of CPPA-G.  3-month KIBOR + 0.45%  Higher than the mark-up payable by the Company on its own borrowing of like or similar maturities, at the time of disbursement.  Not applicable	be required under the Sponsor Support / Company intends to make these sponsos shares and/or ordinary shares and/or throu that may be received from the lenders. If thi include a USD return on equity of 11%, wl payment date and redeemable at the optio Information pursuant to Section 4(2) of Companies or Associated Undertakings) R  Information required a) Total investment approved b) Amount of investment made to date (c) reasons for deviations from the approved timeline of investment, where investment decision was to be implemented in specified time;  (d) material change in financial statements of associated company	greement entered into with the lenders. Tre support investments by way of preferen is subordinated debt depending on approvough preference shares then the key terms is thin will be cumulative if not paid in full on an of the Company.  Information provided  As above  Equity injection of USD 33.7 million (in equivalent Pakistani Rupees)  The Company diluted its shareholding in Trom 49.5% in 2018 to 26% in 2018.  The TN project was delayed beyond origin timeline due to challenges with arrangin USD financing for coal projects an subsequent delays related to COVID-11 The project achieved financial close on 3 September 2020 and subsequent delays related to COVID-15 The project achieved financial close on 3 September 2020 and subsequent achieved commercial operations date in February 2023.  Equity injections were made along with del disbursement and total equity obligation of the Company has now been met.  The associated company's financial close was delayed beyond original timelines due was delayed beyond original timelines due to company's financial close was delayed beyond original timelines due to company financial close was delayed beyond original timelines due to company's financial close was delayed beyond original timelines due to company's financial close was delayed beyond original timelines due to the company's financial close was delayed beyond original timelines due to the company's financial close was delayed beyond original timelines due to the company's financial close was delayed beyond original timelines due to the company's financial close was delayed beyond original timelines due to the company's financial close was delayed beyond original timelines due to the company's financial close on the company's fina	

# اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذرىيد نبااطل دان باقى بىك ئىنى كەكبىران 16 دان سالانا مالاس مەما بەر يەرەيد 19 ئىز 202.2 كۇنتى 9.30 بىلى بىدىتا تەپ ئاردا داۋىجىش تەپ ئاكتان ( آئى تاپ يې ) تۇبۇرگې، بار دا داۋىجىش ايۇبىگەللىن، ئرايقى شەمىتقىدىيا بايدىگە جىرىش اكتبىرا قامدۇر ياتلىپ بىلەت كەز بىلىچەكەردى تەزىل مەرىك اجام رىكى ئىلىغۇم زىما ياپ ھايچە

#### عمومی کاروائی

- 30 جون 2023 کوئتم ہونے والے سال کیلئے تمینی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسایات مع ان پرچیئر مین کا جائز ہ، ڈائز یکٹرز اورآ ڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی بغورو فوش اور منظوری۔
- ۔ 22-222 کے کے تقعی نظر من فوصلامہ بٹر ح 150 فیصدر المنز 50.60 در پ پی ٹیٹر کی نظر میں جیسا کہ بورڈ آف ڈائز کیٹرز نے سفارش کی ہے۔ یہ پہلے ہی سے ادائے جانے والے 30 فیصد میروں منافع مقسد یعنی 5.50 در پ پی ٹیٹر کی ساوہ د ہے۔ 22-2023 کیلئے مورٹ منافع مقسد کی آم 600 فیصد مین 600 در پ پی ٹیٹر دویا ہے گئے۔

- و ور سیزن ہریں ہے۔ ''حریہ نے پاک کیئون کے بیف گاؤ بیف خاص تیسر یا کمپڑی کیر افرادی طور پر تمام خروری اقدامات، اعمال اورا مورکوانجام دینے، اورتمام قانونی تقاضوں کی قبیل کے لیے اوران قرار اداؤگلی جاند بہنانے کے مقصد کے لیے شروری دیتا ویزات، جیسا کیشروری یا اتفاقی ہودہ کا کرنز تام طلوبہ اقدامات الھانے باشرون کرنے کے لیے جاز ہیں''
  - جیسا ایشرور باانظانی ہودہ کا سرتام معلوب الدامات اتعالے یاسروس کرے کے لیے گواڑیں کمپٹرزا کیک 2017 کے پیکشن 199 کے تحت درج ذیل خصوص قرار ادادوں پر فورکر ادارہ اگر مناسب سجھا جائے تو بڑتیم ماشانہ یا صدف کے ساتھ یا اس کے اپنیریا سرک بات
- - کمپینزا یک 2017 کے پیشن (3) 134 کے تحت خصوصی قرار دادیے متعلق بیان کمپنی کے مبران کوارسال کئے گئے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

گراپی؟ مورفته:11 متبر2023 بحکم بورڈ سمیراملانی سریرا

سمپنی سیریثری

توسر

### سالا نها جلاس عام کی کارروائیوں میں بذریعہ وڈیوکا نفرنس شرکت کی سہولت:

سیمور پر ایند کہ پیچھ کیکٹس آف میں کیا سال دھٹر ہو اور کا سیمان کی لیا ) نے وقا کہ قو قا جاری کر روائے سے کہتر کو جاریت کی ہے کہ فزیکل اجاس کے انتقاد کی شراط کے لئے اجازی جام اور کھی طور پر منتقد کے جاکہ کی بھر کا میں کہتر ہو کہ کے بھر کے کہتر کو کا کہتر کے کہتر کو کا میں کہتر ہو کہ کی کھیا ہے کہ کہتر کے ہے۔ اجاس کے انتقاد کے خالا وہشیخ برالدروک میرک کے سلط میں اور فوجل اجازی نے رویدو کا کھیکھنے کے کا رافقا اے کرتی ہے۔

سال ندا جال مام شرکز سے خواہ شعیش خبر بولڈرز سے درخواسٹ کی جائی ہے کہ وہ اپنے شمر دری کا انسف جو کوروہ ای شمل ایٹر سام ۱۹۰۸ میں ان پائی کے استعمال کی انسان کی تعمیل موسول ہے۔ ممبران کے ساتھ شیخر کیا جس کی ان کا بطروبت میں مدری نزی ترام انھیں ہا سے شال ہوگی اور سال سا جا اس کا 48 کھے پہلے موسول ہوگیا۔

ı	رجنز ڈای میل پت	ييل فمبر	ى اين آئى ى نبر	فولي <i>وا</i> ى ۋى يىنمبر	شيئر ہولڈر کا نام

شیئر ہولڈرزر جٹریشن کے لیےائے تبھرےاوراستفسارات برائے سالا نداجلاس عام کےایجنڈ ا آٹھر بھی ارسال کر سکتے ہیں۔

#### شيئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کنٹی کیٹیٹرزاشنز کا 1 اکتر 2023ء 2013 کئٹر (چوں کیام) سالہ داجاں جام اورخی منافع مظمد کی اداشگل سقامد کے نیزر پس کی ۔ پراشٹرز ادار شیٹرز بھراری پرائیس کی بالیٹرز کیا ہے کہ اور کا انتخاص کے اور 10 کیٹر کیٹرز کوٹرز کیٹرز کی

#### سالانه جائزه اجلاس میں شرکت:

ا شوادی صورت میں ، اکا وَٹ بولڈرز اِدْ کِی اکا وَٹ بولڈرز اور کی اور افرادوش کی سکیر بر ٹیز کروپ اکا وَٹ میں جی اوران کی رجز پیشن کی تصیبات شوابل کے سابق آپ اوڈ کی گئی جیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اسل شاختی کا درفیا اسل پا سپورٹ رکھا کر اپنی شاخت کی تقدیق کرائم کی گ

کار پوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائز مکٹرز کی قرار داد/ یا درآف اٹارنی جس میں نامز وخض کے دستھنا کے نمونے ہوں گل (اگراس نے قبل فراہم نمیں کے گئے ہوں) چیش کیا جائے گا۔

ا جال عام شرائرک کرنے اور ووٹ دیے کا انتقاق کے والاکوئی مجی مراجلاں شن اپنی جگ برگرک کرنے ، بولے اور دوٹ دیے کیلئے پراک کا تقر رکز سکتاتی ہے۔ پراک کے کقر ترک ووٹ میں جا میان شن اپنی کھی کے برجز وَ اس میں پانکونی کے شیخر ر جسٹرار کے درنی بالاپیتے پر پراکسی کی تاہی ہے آئی تی کی کا بی ہے کار چور کے ادار کے صورت شان بروز آف ڈائر کیٹر زی قرار داد یا در آف الدر نار فرار دان سازہ تاری فرخ مزدکر دو میخور سے نور میتون کے ایک کا بی اجلاس ہے اگر انجام 48 کھنے قبل فرام مرکز دی ھائے۔ پاکی کافارم اردواور اگریزی زبان شرسالا ندر پورٹ کے ساتھ شکل ہے اورا اے دوافرادی گاوای کے ساتھ شارک کے اع

## كوا نف كواب أيث كرنا:

(لي)

شیخ جوللرز ہے درخواست ہے کہ اینے چین میں کی پھی توبہ یلی ،اگر کوئی ہو ۔ کی پینی کے شیخر رجنز ار کوئوری طور پر مطلع کر ہیں ۔ کار پھر بیٹ ادار ہے کی صورت شاہشیخر ہوللرز نے درخواست ہے کہ اینے کا بوائد میں کھر کا کھر کا کھر کا کھر کے کہ انگ میں تبدید کیا کہ ہوائد در

# ابھی تک فراہم نہ کئے جانے والے ی این آئی سی کی نفول کا جمع کرانا:

ا یکٹونیکس پیئر لسٹ (اے ٹی اہل) رموجود نہ ہونے والے افراد کے لئے

کمپنی سیکشن 243 ماہت کمپنیزا یک 2017 کی شقوں کے تحت منافع منقسمہ روک لے گی۔

#### منافع منقسمه برود مولدٌ تك نيكس:

. موجود وطور کیپنیز کی جانب سےادائے جانے والے منافع منقسمہ کی قرم پر ووبولڈنگ ٹیکس کی گوتی اہم ٹیکس آ رڈینینس 2001 کے بیکشن 150 کے تحت کی جاری ہے جودرج ذیل کے مطابق ہے: ا یکٹونیکس پیئرلسٹ (اے ٹی ایل) پرموجودافراد کے لئے

ووثیتر بولارز جوابے گوشوارے تخ کر کیجے ہوں اٹیش مدایت کی جائی ہے کہ دوا ہے نامول کا ایف فی آر کا ویب سائٹ برفراز انزام کر دونا زوتر رہے گئی چیز زلسٹ (اٹ فی ایل )موجود فرگا دستان فی مطل کے وقت بیٹنی بنا کم کی ایسورت دیگر انتیں اے فی ایل برموجود نہ

30 فيصد

ہونے والاردتصور کیا جائے گااوران کے نقد منا فع منقسمہ پر 15 فیصد کے بجائے 30 فیصد کی شرح سے کو تی کی جائے گی۔

# جوائت اكاؤنث بولذرز كي صورت مين منافع منظسمه يرود بولذنك فيكس:

کٹی کور گھر لیزز کی ہدایات چر کل کرتے ہوئے جائے اکا وزن برولڈرز ) سیٹیز ہولڈگ کے سام ساتھیں (جہاں کے چاہ کے سیٹر ہولڈگ) کا میں ہولڈر کے جانب ہیٹیز ہولڈرز کے ہولڈگ کئی کا کو تی سیسلسلے میٹیٹر ہولڈرز کے درخوات بے کہ دو اپنے پاس موجود نیٹیز بولارگ کے تناب کانفیسل بطور پر پیشل ٹیٹز بولارزان کے شیخ کر بحوار کارٹیز کا اس کے سابق میں کانفیسل بطور پر پر مطلبہ بمعلوات الانہا کیٹن کے شیخر رجزار اکو اہم کارٹیز کا اس کے سابق کیٹر کے سطلبہ بمعلوات الانہا کیٹن کے شیخر رجزار اکو 16 اکتوبر 2023 تک موصول ہوجا کیں بصورت و گیر ہرایک شیئر ہولڈر کوشیئر کے مسادی تعداد کا حال تصور کیا جائے گا اوراس کے مطابق ٹیکس کی کوٹی کی جائے گی۔

نقد منا فع منقسمه کی الیکثرانیکلی ادا نیگی (ای مینڈیٹ): کھینزا مک 2017 سیکٹٹن 242 کیشٹوں اور کیٹیز(مزابل منتصری کائٹیم) کمیکیٹرا 2017 سے مطابق پیازم ہے کیفقد کی صورے میں 15 مان اورائی منتصرے میڈر دویا کیکٹر ویک طریقتر کا دراوراست استحقاق کے مالیٹیٹر وولڈر کی جانب ہے ام درکر دویتک اکا وزن میں

کانام ہاؤوا ور پید شامل ہوں کیٹنی کے شیئر رسٹرار کوفر امہم کر دیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جم پایشنیٹسٹر میٹولرڈ پارٹری کئن آپ پاکستان (ی ڈی ی) کے پام شیئرز کے حال ہوں ان ان کا گا کا مہاد

سالاندر بورث کی بذریعهای میل تقسیم (افتیاری):

کینزا یک 2017 سیکتش (6) 22 کرفش کے مطابق کینیز گراومواز دری جاتی ہے کہ دوایئے سالا نہالیاتی صاباتے شعران از بزرگ رویٹ ، دامزیکٹر شرکا وابواز دری کی اعلیاتی میں اعلان کے مقابق کینیز از کا میں اعلان کے اعلان کی کہ کینزا کیا ہے کہ اور سالا ناجازی مام کی اطلاح کی کینزا کر سکتا یں۔ کھٹی کے ایسے شیئر مولڈرز جوکٹوٹی کی سالاندر پورٹ اورسالا شاجا ہاں عام کوٹٹس بذرابیدای ٹیل وصول کرنے کے خواہ شعند ہوں، ان ہے ورخواست ہے کہ دور کھٹنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ) الکیٹر وعکہ کیٹیکٹٹس کنسبید خارم کو پر کسے تکٹی کے شیئر رجنراز کوارسال کر

30 جون 2023 کوختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی صابات کمپنی کی ویب سائٹ (www.thallimited.com) پرگزشتہ سالوں کے لئے سالانداور سرمای مالیاتی صابات کے علاوہ وستیاب ہیں۔

# فزيكل شيئرز كى بك انثرى فارم كى صورت مين منتقلى:

کھیٹر ایک 2011ء کے سطابق بیدازم ہے کہ تمام العذکہ کیٹیال فرینگل صورت میں مورود شیئرز کوکٹیٹرز ایک 2011ء کے انداز کی سازت کے امالوں کے انداز کیک انداز کی ساورت میں موروث میٹرز کوکٹیٹرز ایک 2011ء کے انداز کیس CSD/ED/Misc./2016-939-940 مودید 26 یارین 25 سرحایق کینی کارونیز نیکل صورت شین شیترز کے حالی قبام شیئز و کار ال قبام شیئز و کار ال شام شیئز و کاروند کارون ک تبدیل کرالیں شیئر مولڈرزفزیکل صورت میں موجودشیئر زکو بک انٹری کی شکل میں تبدیل کرانے سے ممل اوراس نے فوائد کو جھنے کیلئے کمپنی کے شیئر رجٹر ارسے رابطہ کر سکتے ہیں۔

# اى دوننگ اور يوشل بيلن كيليّ طريقة كار: گنیز (این طبط ) ، کالیشود (این کا 210 و 870 (ا) 2192 (ا) 2202 کتر مثل کیا آلیا به ، کرمبران کو که کوره در کالیشون شام بیان کرده از کالیشون شام کام کنیز (این طبط ) ، کالیمبران کو که کار کار کار کالیشون شام کام کام نام مثل خصوصی کاروبار کے لیے دوسا کا تن استعمال کرنے کی اعبار ت

ہوگی۔ کمپنی این ممبران کو ووٹنگ کے لیے درج ذیل اختیارات فراہم کرےگی۔

- ای وونگ کے ذریعے اپنے ووٹ کا نتی استعمال کرنے کے خواہشند نمبران tl@hoh.net پر"ای وونگ کی درخواست " کے موضوع کے ساتھ ای میں کتیجین اور اپنے درست شاختی کا درغمبرز، بیل نمبرز اورای میل ایڈرلیں 13 اکتوبر 2023 کو پیاس سے (1) قبل فراہم کریں۔ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ممبران کے ساتھ ای میل نے ذریعے شیئر کی جا کیں گا۔
  - ممبران کو دیب ایڈر اس ، الگ ان کی تفسیلات ، اور پاس ورڈے بذراجدای میل مطلع کیا جائے گاممبران کو پیکورٹی کوڈ زمیسرز فیمکو اپنے واپسی اپنے سے کہ انسان کی تفسیلات ، اور پاس ورڈے بذراجہ ایس ایم ایس فراہم کئے جا ئیس گے۔ (r)
- (r) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشیند ممبران کی شناخت الیکٹرا نک د سخط یالاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔ ای وونگ ائٹرہ 2012ء 2023ء 2000 بجے سٹروع ہول گی اور 20 اکتوبر 2023 کوٹٹام 05.00 بج بندہوں گی مجران اس مدت کے دوران کی بھی وقت اپنادوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بارکی مجرکی طرف سے آرار داو پر دوٹ ڈالنے کے بعد،
  - (r) اے بعد میں اے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

نم بران تبال طور پر فیل بیلٹ کے ذریعے دوٹ ڈالے کا احق ب کر سکتے ہیں میمبران اس با سے کو بیٹی بنا میں کی کر کیلٹ جی میک مل طور پر پئے گئے گا دو جھٹ شدہ جو ان ادریجیٹو شار ڈاق کی جانق کی کا داؤ ( کی این آئی ) کی کا بی سے سے انھی کیٹنی کے دہنرڈ ایلے اس حقل کے انداز میں میں میں میں انداز کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی جانوں کی کہا ہے۔ آف جيب، 3. جنان كوآي پيغ باز سگ موسانگي، باك 7/8، شابراد فيعمل كرا پي يا "بيش يطف كندر ميدوونگ" يموسوش كي معاقب 20 يا تور 2002 قبل دوران إداق تا كار بذر ايدوا ك اجلاس كي يتيز شري كوموسول بورني بايش . نیک پیر پردخطسی این آئی کے دسخط مے ماثل ہونے چاہیں۔ پوشل بیلٹ پیراحال سے ماز کم سات (7) دن قبل کمپنی کی ویب سائٹ www.thallimited.com پر کھے جا کیں گے۔ كمينيزا يك 2017 كيكن (3) 134 كتت خصوصى كاروبار ي متعلق مادى هاكق كابيان: پر بیان خصوصی کاروبارے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے، جونوٹس کے ایجنڈ انمبر 4 اور 5 میں دیا گئیا ہے، جس کا مقصد سالا ندا جلاس عام میں اس کے امور کوزیر بحث لانا ہے۔ نونس كاايجندًانمبر4: سکیا دیزایدا آنجیج کیٹن آف یا کتان (السائ ی بی ) نے اپنے S.R.O.389(1/y2022 مورند 21 مارق 220 کے تحت اسلاکیٹین کراہاز نہ کیا گھٹن آف یا کتان (السائ ی بی کے) مجار ایک گرفزار سے کہنی کے مجبر ان کا رائ وی ڈی کا وہالس کی کے جیانے) QR کو اور ویب لنک کے در میع گائی فرام امر کئی ہے بجہ کرسالا شاجا ہاں مام میں شیئز موالدز زک متقوری ہے شور طاہ ہوگا۔ جہاں شیئز مولدز کی طرف ہے این شیئز مولدز کی علوں ویس کے در میلا کا انتخاب کی میرکو مسالات آؤے شھرہ ایا لیاتی گرشواروں کی ترسل کر 🕏 گا۔ ایک شیخر برولڈر کٹن 🗷 سالاند آؤٹ شدہ مالانی گوشواروں کی باوؤ کابی فراہم کرنے کی درخواست کرسکتا ہے، اور اے شیخر بولڈر کے رجزؤ ایڈریس پر باشابلہ طور پر مکمل درخواست فارم کی وصولی پرمنت فراہم کیا جائے گا، ، جیسا کہ مکٹن کی ویب سائٹwww.thallimited.comپردستیاب ہے۔

نونس كاايجند انمبر5: يس منظر:

نتل و ابا ارقر ( بر ائيب 🚅 ) لبينز ( تخل او ا) تقل باور برائي پيد لبينز لهؤها باور برن مايينز ( نوانگيل لبينز ڪ في ادار پ ) اور ب يام يکن لبينز کا تال بين شرک ان اور کام يا پيد شرک و ان اور کي اين پيد کام کر کي ليا يا کام کام کر کي کي پيد کي خيا پياد

(پرائیویٹ) کمیٹنڈ TN کے کل شیئر ہولڈنگ کی 26.0 فیصد کی حال ہے، ہاتی شیئر ہولڈنگ حب باور ہولڈنگر کمیٹنڈ 38.5 فیصد ، نو وا باور جن کمیٹرٹر 24.70 فیصد ، فیصون 1 فیصد ، اور کا ایم ای کی شیار کا میں میں 10 فیصد ہے۔

# TN(رينزل يادريز چيز نگ اليغز ("CPPA-G\_") كردريان 2 جمداني 2 كراك كرينا يا ني والي كرينزا ("CPPA-G\_") كردريان 2 جمداني 17 لاك كرينا بي ويريز بالكرينزا كرين المعقر فيزانش ودردارين لا محتوظ كرين كيلية ايك ليثرآف كريدت فراجم كياب\_ چنگہ TN کے پاس اس طرح کے لیئز قس کر بیٹ سے مختب اپنی ذرہ دارین کیک طل طور برمختوظ کرنے کے لیجائی مبیکی رفی تیس ہے بیٹی TN کودیگرا سیانسرز کے ساتھ رمئیے رفی فرانم کرنے کی شرورہ ہے۔ پیکنی کے مختر روانا اور پر جارح بنا کر حاصل کیا جائے گا ، پانچیوں ک

یالیاتی اداروں کواس طرح کا سیکیو برٹی فراجم کرنے کی ضرورت ہوگی جس کی رقم PKR کے مساوی 1,000,000 امریکی ڈالر (امریکی ڈالر دوملین آٹھے موہزار صرف سے زیادہ نہ ہو ) جیسا کہ متعلقہ پیکوں کہ ایالی اداروں کو خبر ورت ہو تکتی ہے۔

معلومات کی نوعیت جس کاانکشاف کمپنیز ( ملحقه کمپنیوں یاایسوی لینڈ انڈرٹیکنگزیٹس مرایہ کاری) ریگولیشنز 2017 (ریگولیشنز ) کےمطابق کیاجاناضروری ہے۔

#### برقتم کی سر مار کاری کے لیےر پیکلیشنز (a) 3 کے تحت ضروری انکشافات: (21

فراہم کردہ معلومات در کار معلومات

''ملحقه مینی'' کانام	تقل نووا پاورتقر(پرائيويپ) لمينٽر (ئي اين)			
نیاوی قعلقات	فى این کونى كاملىتە كىنى بىسىكىنى، ان يكس ملكىتى دىلى كىنى قىل بادر (پائىيەت) كىدىندى درىيد، اس دەت فى اين شرو ، 26 فيصد شىر زى دائل ب-			
	جناب محمد طيب احمد ترين كمپنى كے كا اى او تاير	جناب محمرطیب احمد ترین کینی کے ما ای او بیں اور ٹی این شن ڈائر کیکٹر شپ کے حال ہیں۔		
	جناب جرسلمان برنی کمپنی اور ٹی این کے بور	وں میں مشتر کدؤائز مکثریں ۔		
گذشة تبن سالو <i>ن كيل</i> ية في شيئر آمد ني	بال	آمدنی فی شیر		
	2023	2.71ء چ		
	2022	(0.013) يوچ		
	2021	پ بر(0.07)		
تاز ەترىن آۋٹ شدەمالياتى گوشواروں كى بنيادىرى شيئرېرىك اپ دىليو	30 جون 2023 كو15.79 روپے فی خ			
مالی حیثیت ، پشول مالی حیثیت کے بیان کی اہم اموراوراس کے تازور بن مالی بیانات کی بنیاد برنش ونقصان کا کاؤنٹ	تقل نو وا پا ورتھر (پرائيويٽ) لمينيٽر			
	30 جون 2023 تک	رقم 0000غى		
	كل اثاثه جات	139,451,791		
	ا يكوئل	27,878,829		
	طويل مدتى قرضه جات	72,911,740		
	موجوده قرضه جات	38,661,222		

22.522.972 4,793,581

	. ي . هاي
مالتہ کمینی یا اس سے وابستہ انٹر ڈیکنگ کے پروجیکٹ کے سلسلے میں سرمایہ کاری کی صورت میں جس نے کام شروع نہیں کیا ہے، حزید العالم میں العالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا	قابل اطلاق تين
ملوبات کے بعد اپنتی: منصوبے کی تفصیل اور تصور کے بعد سے اس کی تاریخ:	
مصوبے کی سین اور مصورے بعدے آن جاتا ہیں؟ ) شروع ہونے کی تاریخ اور کام کی محیمل کی متوقع ہاریخ؛	
) مرون ہونے رہا تاری اور ہام ہاں ہیں میں سورتا ہاری: ) و ووقت جب تک اس طرح کا مضعوبہ بیٹار نی طور رپکا م کرے گا۔	
) ووونت بب بک از اسران ۵ سوبه جاری مور پره ۱ مرسے ۵- ) متو قع وقت جب تک پراجیک سرماید کاری پروالهی کی ادا میگل شروع کردے گا اور	ļ
) خول وضیح بسینگ برخاری و از بازی با داران و می گرون کرد که و اور ) پر دمورز داسپانسرز ، متعاقد کمپنی یا اس سنسلک انفر دلینگ کی طرف سرم اید کاری کی گیا سرماید کاری کی جانے والی قم نفذ اور غیر	ļ
ى چەنورىدىنىچ كرى ھىلىدىنى ئالى ئىلىنىڭ ئىزىدىك ئالىرىك ئالىرى ئىرىك ئىرىكىيەدى ئايارى بولىكەدى ئاچىكەدەن رايىس رقىمىن فى تاكرىخ بوك؛	
ہا ہے اور وی سے نیادہ صد با بیکاری کی زیادہ سے زیادہ صد	LCPPA کے لیے 2.8 ملین امریکی ڈالر کے مسادی PKR ہے زیادہ وزیرہ والا حدتک سکیو رٹی فراہم کرنا جو کہ TN کے
	مينكوں/قرض دہندگان کو وقافو قنار رکارہو۔ مينكوں/قرض دہندگان کو وقافو قنار رکارہو۔
ب طرح کی سر ما بیکا ری اورسر ما بیکاری کی مدت ہے سر ما بیکا رکمپنی اوراس کے ممبران کوحصول کا مقصد اور فوائد	ٹی این کو330 میگا داٹ کو سلے پرٹنی سولت (''پروجیک') کی تعمیر، ملکیت اور چلانے کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ ٹی این اور سنفرل یا ور
	ر چیز مگ ایجنی ( گازش) لمینلز ("CPPA-G") کے درمیان 21 جوالی 2017 کوسطے پانے والے پاور پر چیز انگر بحنث کی شراک
	ے بحت، جیسا کہ وقا فو قاتر میم کی جاتی ہے، کے تحت، جیسا کہ وقا فو قاتر میم کی جاتی ہے،
	"PPA SBLC") PPA کے تحت کچھ ذمہ دار ہیل کو محفوظ کرنے کے لیے ٹی این CPPA-G کے حق میں کریڈٹ لیفر فراہم
	کرنے کی ضرورت ہے۔
	۔۔۔ ہے۔ چونکدٹی این کے پاس اس طرح کے لیٹرآ ف کریٹرٹ کے تھتا پی ذمدداریوں کو کمل طور پر محفوظ کرنے کے لیے مناسب سیکیورٹی ٹیس ہے،
	پی این میں سے پی کی کی رہی ہے۔ ٹی این کے دیگراسیانسرز کے ساتھ ، متبادل سکیو رٹی فراہم کرنے کی ضرورت ہے ( عبیما کد تعارف میں زیر بحث آیا ہے)۔ ٹی این میر
	سرمایہ کاری سے نیم اسے پیننگی ٹیرف کے مطابق آئی آر آر کی شرائط میں 20 فیصد کی والیسی متوقع ہے۔
مالیکاری کے لیےاستعمال کیے جانے والےفٹر ز کے ذرائع اور جہاں قرضے لیے گئے وہاں فٹر ز کااستعمال کرتے ہوئے سرمالیکاری کا	
اروب:	
قرض کے ذریعے سرمایہ کاری کا جواز ؛	ļ
) ایسے فنڈ زے حصول کے لیے مضانت، فراہم کردہ صنائتوں اور گردی رکھے گئے اٹا توں کی تفصیل ؛اور	ļ
) لاگت کے فائدہ کا تجزیہ	ļ
ز دسر ماریکاری کے حوالے ہے متعلقہ کمپنی یا متعلقہ انڈر ژبکنگ کے ساتھ معاہدے کی نمایاں خصوصیات ،اگر کوئی ہو؛	ٹی این کے لیے جوشیئر ہولڈرز کا معاہدہ (SHA) کیا گیا ہے اس میں ہرا کیٹیئر ہولڈرز کی طرف سے ٹی این کی ایکویٹی میں سرمایہ کاری کی تفصیلات
	ورج بین جیسے کدٹی این کے شیئر زاس طرح تقسیم کیے جا کیں جمینی اپنی کمل ملکتی و یکی پینی تقل پاور (پرائیویٹ) کمیٹرڈ کے ذریعے ٹی این
	كل شيئر مولد ملك ك 26.0 فيصدى حامل ب باتى شيئر مولد ملك حب باور مولد مكر لميشد. 38 فيصد ، فو وا باور جن لميش 24.70 فيصد
	ڈیسکوں 1 فیصد داوری ایم اوی 10 فیصد ہے۔ شیئر موالدر کے حاجہ (SHA) سے مطابق ، برفریق کھٹی کواس منصوبی کو کا میافی سے تعمل کرنے اور چلانے میں مدوکرنے کے لیے تعاون کرنے کا پابند ہے۔
علقه مکنی یا متعلقه اندر نیکنگ یا زیرخورلین دین میں ڈائر میکٹرز، اسپانسرز، اکثرین شیئر بولڈرز اوران کے رشتہ داروں کا براہ راست یا	'تھل یا ور (برا ئیویٹ) کمیٹیڈ کے ذریعے کمپنی فی الحال ٹی این میں 26.0 فیصد شیئر زک مالک ہے۔
واسطه مفاده اگر کوئی ہو	۔ جناب مجمد طیب احمد ترین کمپنی کے میں اور میں اور ڈی این میں ڈائر یکٹرشپ رکھتے ہیں۔
	جناب مجرسلمان برنی تمینی اور فی این کے بورڈ ووٹوں میں مشتر کدڈائز یکٹر ہیں۔ جناب مجرسلمان برنی تمینی اور فی این کے بورڈ ووٹوں میں مشتر کدڈائز یکٹر ہیں۔
ر ملحقہ کینی یا اس سے وابسة اشرائیک ش کوئی سرماید کاری پہلے ہی کی گئی ہوتو ، اس طرح کی سرماید کاری کارکرد کی کا جائزہ بشول کسی	
ن خرابی کے لیے ممل معلومات/ جواز پارائٹ آف؛	
ن دین کو بھنے کے لیے ممبران کے لیے کوئی اورا ہم تضیلات	قائ <i>ل اطلاق بين</i>
ب) ریگویشن(ع)3 کے تحت ضرور کی انکشافات:	
چه بدرجه سر ما میدکا د کی کی رقم	لیٹر کے تحت ٹی این کی ذمدداریوں کو تحفوظ بنانے کے لیے، ایک ایسی رقم تک جو PKR ہے۔ 2.8 ملین امریکی ڈالر کے مساوی نہ ہو،
	CPPA-G كتري مين جارى كرده ليفرآف كريرك كتحت في اين كي ذمد داريون كومحفوظ بنان كيليخ ندكوره بالاحد تك اليي دوسرك
	سيكيو رقى فرا بهم كرما جوكه في اين كے قرض و مبندگان كو وقتا فوقتاً ركار مو۔
را پیکاری کرنے وائی کپٹی کی قرش لینے کی اوسط لاگ ،متعلقہ مدت کے لیے کرا پی انٹر چیک آفرڈ زیٹ (KIBOR)،شریعہ کے اللہ معین اس کے لیگر جی واقعی فیا بیٹ نے بیٹ میں اس کے لیگر جی وقع جی کر ہی اور	3،45+ KIBOR اليسر
ھا ابن مصنوعات کے لیے شرح منافع اور فیرونئز شدہ تاہ اور اپنے اس کے شرح منافع جہیدا کہ معاملہ ہو۔ دک شرح ، مارک اپ ، معناف بقیسی کا کیکش و فیرو و چیر مرا اپنے کاری کرنے والی کھڑی کے ذریعہ وصول کی جائے گ	قرف لیے گافتذ ز کے لیے کئنی کا طرف ہے وصول کی جانے والی مود کی شرح اس مود کی شرح سے زیادہ ہونی چاہیے جھ کئنی کو اوا کرنا پڑے گ
دن سرس مارت ہے ہمیں ہو جو میں میں بھر و میوٹر ماہیدہ اور اس کے واقع ہوں حد ربیدو پھول جات ہے۔ بر وسر ماہی کاری کے سلسلے میں کو لیکٹر ل پانکھا ور کی کا تفصیلات حاصل کی جا کمیں۔	رے نے سررے یہ مان مرف میدون اور اور میں میں میں اور میں میں اور میں میں ہے۔ یہ 1000 میر ہے۔ انا مارا ملاق نیں
	عن المار الماري التي الماري
. المحديمة الله بالمحصص مدارية يعني سلمه شوع بالكراز كرتايل مربق حقق وثرانا وضوارا بتمه إروادان ا	ו פויטושעוטיגט
ر مرمایدکاری شن جادلوں کی خصوصیت ہوتی ہے گئی میسکیا و شور شرح میں تو ایس کے قائل ہے، آنو پیر حقیقت شرا انکا و خصالط بشمول جادلوں لحافار مورکے مطالب میں شرکتہ کی جادم کئی ہے اور وووقت جب تبدیا کی قائل کم انواز کی ہے۔	
لے فارسو کے مطالات جن شمائید کیا ہوگئی ہے اور دووقت جب تیم یکی اقابلی طمل ہوگئی ہے۔ شمر کی ادار مگر کا فارس اور شرا افد و معرایا یا حضالہ کیٹی بالاس ہے وابستہ اند رائیکنگ کوریے جانے دالے قریمے	न गी । सा हो फू
نانا دو کے مطالب جن شن تبدیلی اور کتاب اور دووقت جب تبدیلی قاتاتی گل اور کتاب ۔ ان کی ادائی کا شنیز دل اور شرا انکار خوابد یا حصالت کلئی یا اس ہے وابد تا افر رنگنگ کو دیے جانے والے قرضے زیکٹر زنکا مقاود:	تابل اطلاق ثين
لے فارسو کے مطالات جن شمائید کیا ہوگئی ہے اور دووقت جب تیم یکی اقابلی طمل ہوگئی ہے۔ شمر کی ادار مگر کا فارس اور شرا افد و معرایا یا حضالہ کیٹی بالاس ہے وابستہ اند رائیکنگ کوریے جانے دالے قریمے	تالماطات ش

سمنى ھايگروكول مائلگىگۇلىلىڭ: كىنى ئىم بران كا سانداھارىمىنىقىدداتىر 2018 ئىرىنىدە ھايگروكول مائلگىگىغى لىينىڭ (لىس اى يى ايم بى) ئىرىرىيە يكارىك ئىلقىرىدى گائىتى سانسىلىك كەن ئىلىنى ئىل بىلىك ئىللىك ئىلىك ئىللىك ئىلىك ئىللىك ئىلىك ئىللىك ئىلىك ئىلىك ئىلىك ئىلىك ئىللىك ئىللىك ئىللىك ئىللىك ئىللىك ئىللىك ئىللىك ئىلىك ئىلىك ئىس كەنتىپىدە كەنتاپ ئىرلاردىز بىش يەردىخىش ياكىتان كەركىچىلىن ئارايىن ئەستاك كەركىللەرلەن يۇخىلىل ئار يۇخىلىل ئار يۇخىلىل ئار يۇخىلىل ئار يۇخىلىل ئار يۇخىلىل ئاردىخىلىلىدىلىن ئىر ئىرلىنداردان يارىزىلىن ئىرلىنداردان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىداردان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىدان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىدان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىداردان يۇخىلىلىداردان يۇخلىلىلىداردان يۇخلىلىداردان يۇخلىلىدا ہے۔ ایس ای ایم پر سے نیز ۔ ا کے لئے تقل کمیٹر کے بورڈ آٹ ڈائز بکٹر نے 3.14 میٹین امر کے ڈالر کے مساوی پاک روپے کا مجموق آم کی منظوری دی تقتی جس عمر 24.34 میٹین امر کے ڈالر کی اس اور - رین اور م 6.8 ملين امري ذالري رقم برائ وييث مروشيك روي (KBOB/LIBOR) القل وحل كها عن قاتل منها) شال بها الميان ي ايم بي مانتك برونيك ما كنظ في دونيك ما كنان الرود مدت كها ندراد الزاج التيان الميان كي الميان مي كي تاریخ حاصل ندکر لے(جیدا کدمالیاتی دستاویزات میں واضح کیا گیاہے،اشینڈ بائی لیوز ف کریڈٹ فیز-ائے لئے استعال شدہ ایکویٹی کےسلسے میں جاری کردیا گیاہے۔ الٹیمان کا بھا تھر انریکا لیٹیڈاوڈ قلو فوویا ووقر (یرائیے ہے) کمیٹرٹر کے مائیے کے کہا گھر آگا کے لیاکو ملکی کرانوا میں کے معالم ہے ہے۔ جس سے بروو 300 میں اور ان پائٹس میں ہے برایکے 19 بالدی ایس کے المیان کے

ہ وبائے گی۔ 31 دخیرو 201 کوالس ای جانم ہی کے فیر 11 کامال مسال ختم ہوا۔الیس ای جانم ہی کے فیر 11 کے بیشن امریکی ذائر کیسٹرز نے 10.5 ملین امریکی ذائر کےسمادی PS کیال فیائش کی منظوری دی، جس میں 7.9 ملین امریکی ذائر کے اور کا مساور کے دائر کیا ہی تاہم ہی کاری برائے کاسٹ اوور ۔ رن 1.3 ملین اورڈ بیٹ سروسٹک ریز رو(KIBOB/LIBOR نقل جمل کے باعث قابل منہا) 1.2 ملین امریکی ڈالرشال ہیں۔

الیرای ایمی فیزیا نے 20 تیم بر 202 کوکٹر شمال نے بیٹر کا تاریخ حاصل کی۔ یہ دوجکٹ الاگٹ مٹن بجیت کے تنتیجے شن بمجنی نے الس ای کی ایم نیز النسانا کیڈیٹر کے طور پر کیل 4. 5 ملین کی سربار پایوار کی نے فیراستعمال شدونا کیڈیٹر استیقر کیا کی الیرا تھے سرکے بیٹ الوگ میں کا میں المراکز سید اور د رن اورڈ بیبٹ سروس ریز روسپورٹ کا معاہدہ شدہ اسیا نسرسپورٹ الیں ای کی ایم ہی کے فیز 🛘 کی پروجیکٹ کی پیکس کی تاریخ حاصل کرنے کے بعد جاری کیا جائے گا۔

الیں ای ہی اس وقت بلاک 🏿 اسلام کوٹ میں 1320 میگا واٹ تھر بیٹی یاور پائٹس کو کوکلے فراہم کر دہاہے۔ان یاور پائٹس کو ملک میں ٹیس کوڈیا ور کےسب سے سینے ذرائع میں شار کیا جا تا ہے۔

30، ون 2023 تک سیم کی نے ایس ای کا کی پی میں 15. 2,840 کے بین رہ ہے کہ ہر ایکاری کی اور فی شیر 4.82 روپے کی قیت پر 203، 191 مام ٹیٹرز ماس کے جن کی فیٹر تیت 10 روپے روپے ہے۔

غیر معمولیا اجلاس عام منعقد و 22 مارچ 2018 میں تھل نو وا ما ورتھ ( برائیویٹ ) کمپیٹٹر (تھل نو وا) ہے تعلق کاروبار کے مارے میں اٹنیٹس کواٹ ڈیٹ کرنے کے عنمن میں منظوری دی گئی تھی۔

کی ایکویٹی پرامریکی ڈالرکامنافع شامل کیاجائے گاجوا ہ صورت میں مجموق ہوگا اگرادا نیگی کی تاریخ پرکلمل ادانہ کیا اور کمپنی کے اعتیار کے تحت قامل ترجیحوا۔

ىمىنيول ( ملحقة كمېنيول ياايسوى ايندا اند رئيكنگرييس مر مايد كارى) ريگوليشنز 2017 كيسيكشن (4(2) كيرتحت معلومات:

اب تک کی گئی سر ما بد کاری کی رقم

تقل نو دا يا در (يرائيويث) لميثله:

در کارمعلومات

(اے)

(لي)

(ی) حاناتھا۔

(ۋى)

گوشواروں میں مادی تبدیلی۔

ا يكويني كي شموليت، كارخي اوراسيانسر كي معاونت

غیر شعولی اجلاں عام منتقد 2 ارزی 2518 نشر شیخر بولڈرز نے 87.7 کلیونا امریکی ڈالر (یاس کے سمادی پاکسروپے ) تک کیا بھی ٹی شامل کرنے اور 1.1 ملیون امریکی ڈالر (یاس کے سمادی پاکسروپے ) تک کیا تھام کی منظوری دی تختی تا کدایک بالیانی نه مداری توشفاه در 1 ملین امریکی دالر (یااس کے معاوی یاک روپ) کی کمرشل خطرات کی هنات لینتی که مدارای بوری کی هائیا اور اس کے ساتھ کی تحقیق اور کا اس کے معاوی پاک روپ) کی کمرشل خطرات کی هنات لینتی که مدارای بوری کی هائیا اس استان که میشود کار روپاس کے مساوی پاک روپ) کار کمیشود کیلے تھال فوائل 12.4 ملین امریکی ڈار (یااس کے مساوی یاک رویے ) تک کے ڈیسٹ مرون ریز رومپورٹ کیلے ای فوٹ کے معاونت اُسر مایا کاری کے خون شدن کرانے میں ویک رویٹ کیلے ماروں کے ساتھ ایس نومپورٹ اُلیکر بیشٹ کے تحت مُل جس آ کے کی سین کا ارادہ ہے کہ بیام اس موامید کاریاں یا فر رابیز تنبی شینز زاور ایا دیا گھی شینز زاور پاڑ بیل ڈیسٹ کے ذریعے کی جا کمین من کا اٹھماران منظور ہوں کے مطابق ہوں برقرش دیے والوں سے حاصل کی جانک بیس کا اٹھید کے سوائد کا بیستر

فراجم كرده معلومات

جیبا کہاو ہردی گئی ہے

سربار کار دی کی منظوری کے لیے منظوری گی قر آرواد کی تاریخ کے بعد سے ملحقہ کیٹنی یا منطقہ انٹر انٹیگا کے بارائی کے بالیاتی 🕽 کول منصوبیاں کے لیے امریکا کیا گئی ہوائے کرنے شین دریش پیشنجوں اوراس کے نتیجے شین (Covid-19 سے منطقہ تا خیری

سرمایدکاری کی منظور شدہ ٹائم لائن ہے انحواف کی وجو ہات، جہاں سرماید کاری کے فیصلے گوخصوص وقت میں نافذ کیا 2018 میں کمپنی نے تقل فووا میں 49.5 فیصد ہے 2018 میں 26 فیصد تک آج نیم جولائگ کو کم کر دیا۔

33.7 ملین امریکی ڈالر (یاکنتانی روپے کےمساوی) ایکوئی میں لگائی گئی۔

کیااوراس کے بعد فروری 2023 میں تجارتی آیریشن کی تاریخ حاصل کی۔

2023مين تجارتي آيريشن کي تاريخ حاصل کي۔

کول منصوبوں کے لیے امریکی ڈالر کی مالی اعانت کے انتظامات اوراس کے منتیج میں Covid-19 ہے متعلق تا خیر کے باعث تقل نووا پروجیک اصل نائم لائن سے آ گے تاخیر کا شکار ہوا۔ اس منصوبے نے 30 تمبر 2020 کو مالیاتی اختیام حاصل کیا اور اس کے بعد فروری

ا یکویٹی انجیکشن قرض کی تقسیم کساتھ ساتھ بنائے گئے تھے،اور کمپنی نے اب پٹی پوری ایکویٹی فرمدداری پوری کردی ہے۔

وجہ ہے متعلقہ کمپنی کی مالیاتی بندش اصل ٹائم لائنز ہے زیادہ تا خیر کا شکار ہوئی۔اس منصوبے نے 30 ستبر 2020 کو مالیاتی اختتام حاصل